

MODEL PAPER OF CHEMISTRY FOR GRADE-9

Objective Type (Part-I) (REVISED)

Time allowed: 15 Min.

www.stepacademyofficial.com

Max. Marks: 12

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو انتخاب آپ کے خیال میں درست ہے، اس سوال کے سامنے والے دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھریں۔ دو یا دو سے زیادہ دائروں کو کاٹنے یا بھرنے کی صورت میں جواب غلط تصور ہو گا۔

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle with marker or pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

(i) کیمسٹری کی وہ برانچ جو ایٹم اور مالیکیول کے کردار کے بارے میں تحقیق کرتی ہے وہ۔۔۔۔۔ کہلاتی ہے۔

(i) The branch of chemistry that investigate the behaviour of substances at atomic and molecular level is called_____.

- | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| (a) Physical chemistry | فزیکل کیمسٹری | (b) Inorganic chemistry | ان آرگینک کیمسٹری |
| (c) Organic chemistry | آرگینک کیمسٹری | (d) Biochemistry | بایو کیمسٹری |

(ii) ایلیمنٹس کے تیسرے شیل میں زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹرونز موجود ہو سکتے ہیں؟

(ii) How many electrons can be accommodated at the most in the third shell of the elements?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 8 | (b) 18 |
| (c) 10 | (d) 32 |

(iii) کس آئیونک کمپاؤنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہو گا؟ www.stepacademyofficial.com

(iii) Which ionic compound has the highest melting point?

- | | |
|----------|----------|
| (a) NaCl | (b) KCl |
| (c) LiCl | (d) RbCl |

(iv) ایلومینیم آکسائیڈ (Al_2O_3) کے 204 گرام میں Al کا ماس کتنا ہو گا؟

(iv) What is the mass of Al in 204 g of aluminium oxide, Al_2O_3 ?

- | | |
|----------|-----------|
| (a) 26 g | (b) 27 g |
| (c) 54 g | (d) 108 g |

(v) کون سا ہائیڈروجن ہیلائیڈ اینڈو تھرملک ری ایکشن کے نتیجے میں بنتا ہے؟

(v) Formation of which hydrogen halide from the elements is an endothermic reaction?

- | | |
|---------|--------|
| (a) HCl | (b) HF |
| (c) HBr | (d) HI |
- www.stepacademyofficial.com

(vi) کوہالت کلورائیڈ ڈائی ہائیڈریٹ کارنگ-----ہوتا ہے:

(vi) The colour of cobalt chloride dihydrate is_____.

- (a) Purple جامنی (b) Blue نیلا
(c) Pink گلابی (d) Yellow پیلا

(vii) کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کو پانی میں حل کریں تو کتنے ہائیڈروآکسائیڈ آئنز بناتے ہیں؟

(vii) How many hydroxide ions, calcium hydroxide will release in water?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 0 www.stepacademyofficial.com

(viii) نائٹروجن کا ایٹم اپنے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرونز حاصل کر سکتا ہے؟

(viii) How many electrons can nitrogen accept in its outermost shell?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

(ix) کون سا ہیلوجن ایسڈ عام درجہ حرارت پر ان سٹیبل ہے؟

(ix) Which halogen acid is unstable at room temperature?

- (a) HCl (b) HF
(c) HBr (d) HI

www.stepacademyofficial.com

(x) ماحول میں آرگن کتنے فیصد پائی جاتی ہے؟

(x) What is the percentage of Argon in atmosphere?

- (a) 0.934 (b) 21.0
(c) 78.0 (d) 0.04

(xi) کوئی دوسری میٹل کو الکیل ہیلائیڈز کو ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

(xi) Which other metal can be used to reduce alkyl halides?

- (a) Al (b) Mg
(c) Ni (d) Co

(xii) آرگینک کمپائونڈز میں کون سا ایلیمنٹ کاربن ایٹم کے ساتھ اکثر موجود ہوتا ہے؟

(xii) Which other atom is always present along with carbon atom in all organic compounds?

- (a) Oxygen (b) Nitrogen www.stepacademyofficial.com
(c) Hydrogen (d) Halogen

Subjective Type (Part-II)

Time allowed: 1:45 hrs.

Max. Marks: 48

Q. 2: Write short answers to any five (05) questions:

(2×5=10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

- (i) انوائز مینٹل کمیشنری کی اہمیت بیان کریں۔
- (i) Write the importance of environmental chemistry.
- www.stepacademyofficial.com
- (ii) $^{210}_{83}\text{Bi}$ میں کتنے نیوٹرونز موجود ہوتے ہیں؟
- (ii) How many neutrons are present in $^{210}_{83}\text{Bi}$?
- (iii) ایٹمک نمبر اور ماس نمبر میں فرق بیان کریں۔
- (iii) Differentiate between atomic number and mass number.
- (iv) HF ایک مائع ہے اور HCl ایک گیس، ایسا کیوں ہے؟
- (iv) Why HF is a liquid while HCl is a gas?
- (v) نائٹرک اینڈ کاڈاٹ اور کراس فارمولہ سٹرکچر لکھیں۔
- (v) Write down dot and cross formula of HNO_3 .
- (vi) مول اور ایووگڈرو نمبر میں کیا فرق ہے؟
- (vi) What is the difference between a mole and Avogadro's number?
- (vii) 1.5 گرام پانی میں کتنے مالیکیولز ہوں گے؟
- (vii) How many molecules are present in 1.5 g H_2O ?
- (viii) بیریم نائٹرائڈ کا کیمیائی فارمولا لکھیں۔
- (viii) Write down the chemical formula of barium nitride.

Q. 3: Write short answers to any five (05) questions:

(2×5=10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

- (i) انتھالپی اور انتھالپی چینج میں کیا فرق ہے؟
- (i) What is the difference between enthalpy and enthalpy change?
- (ii) بانڈ کاٹنا ایک اینڈو تھرملک عمل کیوں ہے؟
- (ii) Why is breaking of a bond an endothermic process?
- (iii) ہمارے جسم میں گلا کو جن کیا کام کرتی ہے؟
- www.stepacademyofficial.com
- (iii) What is the role of glycogen in our body?

- (iv) ڈائنامک ایکولبریم اور اسٹیک ایکولبریم میں کیا فرق ہے؟
- (iv) How is dynamic equilibrium different from the static equilibrium?
- (v) کمبیشن ری ایکشنز عام طور پر ارریور سیبل کیوں ہوتے ہیں؟
- (v) Why are combustion reactions generally irreversible?
- (vi) کیلشیم میٹل کس طرح سے سلفیورک ایسڈ سے ری ایکٹ کرتی ہے؟
- (vi) How does calcium metal react with dilute H_2SO_4 ?
- (vii) لفظ پیریڈک کی کیا اہمیت ہے؟
- (vii) What is the significance of the word periodic?
- (viii) پیریڈک ٹیبل میں ایلیمینٹس کو ترتیب دینے کے لیے ایٹم نمبر کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟
- (viii) Why is atomic number chosen to arrange the elements in the periodic table?
- Q. 4: Write short answers to any five (05) questions: (2×5=10)**
- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:
- (i) آئیوڈین عام درجہ حرارت پر ٹھوس حالت میں کیوں پائی جاتی ہے؟
- (i) Why does iodine exist in the solid state at room temperature?
- (ii) پیریڈک ٹیبل میں کوئی سے تین ایلیمینٹس کے نام بتائیں جو مائع حالت میں پائے جاتے ہیں۔
- (ii) Name any three elements in the periodic table which exist as liquids.
- (iii) نوبل گیسز کی تین خصوصیات بیان کریں۔
- (iii) Write any three properties of Noble gases.
- (iv) ماحولیاتی تعلیم کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟
- (iv) What is the main objective of environmental education?
- (v) کاربن مونو آکسائیڈ کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں؟
- (v) What are the harmful effects of carbon monoxide?
- (vi) آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز کا موازنہ کریں؟
- (vi) Differentiate between an organic and an inorganic compound.
- (vii) آرگینک کمپاؤنڈز ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟
- (vii) How are organic compounds useful for us?
- (viii) نیفتھا کو گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
- (viii) What does happen when naphtha is heated?

Subjective Type (Part-III)

نوٹ: کوئی سے دوسوالات کے جوابات لکھیے۔ www.stepacademyofficial.com

Note: Attempt any two questions.

Q. 5: (a) Write differences between elements, compounds and mixtures? (5)

(الف) ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اور مکسچرز کے درمیان فرق بیان کریں۔

(b) Explain Bohr's atomic model. (4)

(ب) بوہر ایٹمک ماڈل کی وضاحت کریں۔

Q. 6: (a) Explain the formation of an ionic bond and a covalent bond (5)

(الف) ایونک اور کوویلنٹ بانڈز کیسے بنتے ہیں تفصیل سے لکھیں۔

(b) Explain Arrhenius concept of acids and bases. (4)

(ب) اریڈز اور بیسز کے بارے میں آرمینس کے نظریات کی وضاحت کریں۔

Q. 7: (a) Explain the variation in the following properties in the periods giving reasons. (5)

i- Atomic radius ii- Ionization energy

(الف) پیریڈز میں درج ذیل خصوصیات کیسے تبدیل ہوتی ہیں؟ وجہ بتائیں۔ www.stepacademyofficial.com

(i) ایٹمک ریڈیئس (ii) آئنوائزیشن انرجی

(b) Describe harmful effects of the major pollutants present in the air. (4)

(ب) ہوائیں موجود اہم آلودہ اشیاء کے نقصان دہ اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیں۔